

جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى جَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ لِيَ تَعَلَّقَ بِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَعَلَى الْأَرْضِ الَّتِي أُخْفِنُ فِيهَا

The blessed chain of the Mashaikh of Hadhrat

Shaykh Maulana Muhammad Zakariya Kandhlawi رحمۃ اللہ علیہ

Master of Both Worlds, Pride of the Universe, Seal of the Prophets and Messengers, our

leader, Muḥammad Rasuḷullāh صلى الله عليه وسلم

Sayyidunā ‘Alī ibn Abī Ṭālib رضی اللہ عنہ (Died 40 AH)

Sayyidunā Ḥasan Baṣrī (110 AH)

Sayyidunā Khwāja ‘Abd al-Wāhid ibn Zayd Abū ‘l-Faḍl Baṣrī (170 AH)

Sayyidunā Khwāja Fuḍayl ibn ‘Iyāḍ ibn Mas‘ūd ibn Bishr Al-Tamīmī Makkī (187 AH)

Sayyidunā Shaykh Sulṭān Ibrāhīm ibn Ad’ham ibn Maṣṣūr Balkhī (162 AH)

Sayyidunā Khwāja Ḥudhayfa Al-Mar‘ashī Baṣrī (202 AH)

Sayyidunā Khwāja Amīn al-Dīn Abū Hubayra Baṣrī (287 AH)

Sayyidunā Khwāja ‘Ulū Mumshād Dīnawarī (299 AH)

Sayyidunā Khwāja Abū Ishāq Chishtī Shāmī (329 AH)

Sayyidunā Khwāja Abū Aḥmad Abdāl Chishtī (355 AH)

Sayyidunā Khwāja Abū Muḥammad ibn Abū Aḥmad Chishtī (411 AH)

Sayyidunā Khwāja Sayyid Nāṣir al-Dīn Abū Yusuf Ibn Sam‘ān Ḥusaynī Chishtī (459 AH)

Sayyidunā Khwāja Quṭb al-Dīn Mawdūd Chishtī (527 AH)

Sayyidunā Khwāja Sharīf Zandanī (612 AH)

Sayyidunā Khwāja Uthmān Hārūnī (617 AH)

Sayyidunā Khwāja Mu‘īn al-Dīn Chishtī Ajmerī Sijzī (632 AH)

Sayyidunā Khwāja Quṭb al-Dīn Bakhtiyār Kākī (634 AH)

Sayyidunā Shaykh Farīd al-Dīn Mas‘ūd Ganj Shakar (664 AH)

Sayyidunā Al Makhdūm Khwāja ‘Alā al-Dīn ‘Alī Aḥmad Ṣābir Kalyarī (690 AH)

Sayyidunā Shaykh Shams al-Dīn Turk Pānipatī (715 AH)

Sayyidunā Shaykh Jalāl al-Dīn Kabīr al-Awliyā Maḥmūd Pānipatī (765 AH)

Sayyidunā Shaykh Aḥmad ‘Abd al-Ḥaqq Radolwī (836 AH)

Sayyidunā Al Makhdūm Shaykh ‘Ārif Aḥmad Radolwī Fārūqī (872 AH)

Sayyidunā Shaykh Muḥammad ibn Shaykh ‘Ārif Radolwī Fārūqī (898 AH)

Qutbul Ālam Shaykh al-Mashā’ikh Sayyidunā Shāh ‘Abd al-Quddūs Gangohī (944 AH)

Sayyidunā Shaykh Jalāl al-Dīn ibn Maḥmūd ‘Umarī Thānīsārī (980 AH)

Sayyidunā Shaykh Nizām al-Dīn Balkhī ‘Umarī Thānīsārī (1024 AH)

Sayyidunā Shāh Abū Sa‘īd Nu‘māni Nawshīrdānī Gangohī (1040 AH)

Sayyidunā Shaykh Khwāja Muḥibbullāh Ilāhabādī (1054 AH)

Sayyidunā Shaykh Sayyid Muḥammadī Akbarabādī (1107 AH)

Sayyidunā Shāh Muḥammad Makkī Ja‘farī (1172 AH)

Sayyidunā Shaykh Shāh Aḥudd al-Dīn Amrohī (1170 AH)

Sayyidunā Shaykh ‘Abd al-Hādi Amrohī (1190 AH)

Sayyidunā Shāh ‘Abd al-Bārī Chishtī Ṣābirī Amrohī Ṣiddīqī (1226 AH)

Sayyidunā Shaykh Al-Ḥāj ‘Abd al-Raḥīm Wilāyatī Shahīd (1246 AH)

Sayyidunā Miā Jī Nūr Muḥammad Jhanjhānawī (1259 AH)

Sayyidunā Ḥājī Imdādullāh Muhājir Makkī (1317 AH)

Muḥaddith Kabīr Shaykh Rashīd Aḥmad Gangohī (1323 AH)

Shaykh Khalīl Aḥmad Sahāranpūrī Muhājir Madanī (1346 AH)

Quṭb al Aqṭāb Shaykh al-Ḥadīth Shaykh Muḥammad Zakariyyā Kāndhlawī Muhājir

Madanī (1402 AH – 24th May 1982)

Shaykh al-Ḥadīth Shaykh Muḥammad Yusuf Motala (may Allah protect him)

شجرۂ چشتیہ صابریہ امدادیہ خلیلیہ

سید الکونین فخر العالمین ختم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ (وفات ۴۰ھ)

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ (۱۱۰ھ)

حضرت خواجہ عبدالواحد بن زید ابوالفضل بصری رحمۃ اللہ علیہ (۱۷۰ھ)

حضرت خواجہ فضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر التمیمی المکی رحمۃ اللہ علیہ (۱۸۷ھ)

حضرت شیخ سلطان ابراہیم بن ادم بن منصور بلخی رحمۃ اللہ علیہ (۱۶۲ھ)

حضرت خواجہ حذیفہ مرعشی بصری رحمۃ اللہ علیہ (۲۰۲ھ)

حضرت خواجہ امین الدین ابوسبیرہ البصری رحمۃ اللہ علیہ (۲۸۷ھ)

حضرت خواجہ علومشاد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (۲۹۹ھ)

حضرت خواجہ ابوالاسحاق چشتی شامی رحمۃ اللہ علیہ (۳۳۹ھ)

حضرت خواجہ ابوالاحمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ (۳۵۵ھ)

حضرت خواجہ ابو محمد بن ابوالاحمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ (۴۱۱ھ)

حضرت خواجہ سید ناصر الدین ابویوسف بن سمعان حسینی چشتی رحمۃ اللہ علیہ (۴۵۹ھ)

حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ (۵۲۷ھ)

حضرت خواجہ شریفت زندنی رحمۃ اللہ علیہ (۶۱۲ھ)

حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ (۶۱۷ھ)

حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بحرہی رحمۃ اللہ علیہ (۶۳۳ھ)

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکلی رحمۃ اللہ علیہ (۶۳۴ھ)

حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ (۶۶۴ھ)

حضرت الخدوم خواجہ علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ (۶۹۰ھ)

حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ (۷۱۵ھ)

حضرت شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء محمود پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ (۷۶۵ھ)

حضرت شیخ احمد عبدالحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ (۸۳۶ھ)

حضرت الخدوم شیخ عارف احمد ردولوی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ (۸۷۲ھ)

حضرت شیخ محمد بن شیخ عارف ردولوی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ (۸۹۸ھ)

قطب العالم شیخ المشائخ حضرت شاہ عبدالقوس لنگوی رحمۃ اللہ علیہ (۹۳۴ھ)

حضرت شیخ جلال الدین بن محمود عمری تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ (۹۸۰ھ)

حضرت شیخ نظام الدین بلخی عمری تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ (۱۰۲۴ھ)

حضرت شاہ ابوسعید نعمانی نوشیروانی لنگوی رحمۃ اللہ علیہ (۱۰۴۰ھ)

حضرت مولانا خواجہ محب اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ (۱۰۵۴ھ)

حضرت مولانا شیخ سید محمدی اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ (۱۱۰۷ھ)

حضرت شاہ محمد مکی بھغری رحمۃ اللہ علیہ (۱۱۷۲ھ)

حضرت شیخ شاہ عند الدین امرہوی رحمۃ اللہ علیہ (۱۱۷۰ھ)

حضرت شیخ عبدالمادی امرہوی رحمۃ اللہ علیہ (۱۱۹۰ھ)

حضرت شاہ عبدالباری چشتی صابری امرہوی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۲۶ھ)

حضرت شیخ الحاج عبدالرحیم ولایتی الشہید رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۴۶ھ)

حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۵۹ھ)

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۱۷ھ)

محدث کبیر حضرت مولانا رشید احمد صاحب لنگوی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۳۳ھ)

حضرت مولانا فلیل احمد صاحب سہانپوری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۴۶ھ)

قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ (۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۲ء)

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف متالا صاحب حفظہ اللہ